



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وآله

وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد

جو لوگ رکوع یا سجدے پر قادر نہ ہوں، ان کے نماز کے طریقے کے بارے میں دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء سے مختلف سوالات کے جواب میں بہت سے فتاویٰ جاری ہوتے رہے ہیں۔ ان فتاویٰ کا ایک انتخاب ایک رسالے کی صورت میں بھی شائع ہوا ہے۔ ان میں سے بعض فتاویٰ پربندے کی تصدیق بھی ہے۔ لیکن بعد میں کچھ سوالات کے جواب میں اس مسئلے کی مزید تحقیق کی نوبت آئی، تو سابقہ فتاویٰ کے بعض امور کیوضاحت اور بعض امور سے رجوع ضروری معلوم ہوا۔ اس لئے ذیل کی تحریر لکھی جا رہی ہے۔

جو شخص قیام پر قادر ہو سجدے پر نہیں، اُس کیلئے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم

(۱) جو شخص زمین پر سرڑکا کر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو اس کے بارے میں حضرات فقهاء حفیظہ حمّم اللہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ اس سے قیام اور رکوع کی رکنیت ساقط ہو جاتی ہے، لہذا اس کے لئے بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر قیام کی حالت میں اشارہ سے نماز پڑھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن خلاف اولی ہے۔ قیام کی حالت میں اشارے سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں زمین پر بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا سجدے کی بیت سے قریب ہونے کی وجہ سے افضل ہے جیسا کہ ہدایہ میں فرمایا گیا ہے کہ ”الأفضل هو الإيماء قاعداً لأنَّه أشبه بالسجود۔“ (ہدایہ مع فتح القدیر ج ۱ ص ۲۶۰) چنانچہ سابقہ فتاویٰ میں اسی موقف کو اختیار کرتے ہوئے علی الاطلاق یہ کہا گیا ہے کہ ایسے شخص سے قیام ساقط ہو جاتا ہے۔

اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ حفیظہ کا یہ مسئلہ کہ سجدے سے مغذور ہونے کی صورت میں قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، اگرچہ خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، چنانچہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الزیادات میں ہے کہ:

”قالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ: رَجُلٌ بِحَلْقِهِ جَرَاحٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى السَّجْدَةِ وَيَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأَفْعَالِ“

، فإنَّهُ يُصلَّى قاعداً بِإِيمَاءٍ“ (شرح الزیادات ج ۱ ص ۲۳۵ و ۲۳۶)

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے تو بظاہر اتنا مسئلہ ہی منقول ہے، لیکن اسکی یہ وجہ بھی قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الزیادات ہی میں بیان فرمائی گئی ہے کہ قیام سجدے کا وسیلہ ہے، اور جب سجدہ عذر کی وجہ سے ساقط ہو گیا تو قیام بھی ساقط

ہو گیا۔ چونکہ شرح الزیادات میں دعج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا ہے، اس لئے یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ مسئلے کی یہ تعلیل بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، یا نہیں، البتہ ظاہر یہ ہے کہ تعلیل قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قاضی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ سے زماناً و رتبۃ متقدم ہیں، اُسکی دوسری وجہ بیان فرمائی ہے۔

قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو وجہ بیان فرمائی ہے، حفیہ کی پیشتر کتابوں میں اُسی کو اختیار کیا گیا ہے، لیکن علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ قیام ایک مستقل رکن ہے، اور ایک رکن کے ساقط ہونے سے دوسرے رکن کا ساقط ہونا لازم نہیں آتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”هذا مبني على صحة المقدمة القائلة ركبة القيام ليس إلا للتسلل إلى السجود وقد أثبته
بقوله لما فيها من زيادة التعظيم، أى السجدة على وجه الانحطاط من القيام فيها نهاية التعظيم، وهو
المطلوب، فكان طلب القيام لتحقيقه، فإذا سقط سقط ما وجب له، وقد يمنع أن شرعيته لهذا على
وجه الحصر، بل له ولما فيه نفسه من التعظيم، كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك، حتى يحبه
أهل التجبر لذلك، فإذا فات أحد التعظيمين، صار مطلوباً بما فيه نفسه، ويدل على نفي هذه الدعوى
أن من قدر على القعود والركوع والسجود، لا القيام، وجب عليه القعود، مع أنه ليس في السجود عقيمه
تلك النهاية، لعدم مسبوقيته بالقيام۔ (فتح القدیر مع الكفاية ج ۱ ص ۴۶۰)

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عنانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعتراض کو نہایت قوی قرار دیکر فرمایا ہے کہ:



”قلت: وهذا إيراد قوي لا يدان لدفعه۔“ (إعلام السنن ج ۷ ص ۲۰۱)

پھر حضرتؒ نے قیام کے مستقل رکن ہونے کے قوی دلائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

”إن ركبة القيام قد ثبتت بالنص، وهو قوله تعالى: ‘وقوموا الله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران: صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، وبالإجماع، فلا يسقط وجوبه عن القادر عليه بالقياس الذي ذكرتموه، فإن القياس أضعف الدلائل لا يجوز معارضته القطعى له۔“

حضرتؒ کی اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: ”توکل على العزیز

الرّحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين“ (سورۃ الشّعرا: ۲۱۷ تا ۲۱۹) والذین یبیتون لربّهم سجدوا قیاما (سورۃ الفرقان: ۶۴) جس میں ”قیام“ کو بجود سے الگ کر کے مستقل سبب مرح قرار دیا گیا ہے۔ نیز متعدد مقامات پر ”قیام“ کا لفظ بول کر پوری نماز مزادی کئی ہے، جیسا کہ سورہ مزمل میں کئی آیات اس پر شاہد ہیں جو

قیام کی مستقل اور مقصود حیثیت پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا علامہ ابن الہمام اور حضرت مولانا عثمانی قدس سرہما کی یہ بات بہت وزن رکھتی ہے کہ قیام صرف وجود کا وسیلہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک مستقل اور مقصود بالذات رکن ہے اور وجود پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں اسکے ساقط ہونے کی وجہ کمزور ہے کہ وہ وجود کے تابع تھا، اس لئے سجدے کے ساقط ہونے سے وہ بھی ساقط ہو گیا۔

شاید اسی بنابر علامہ سراج الدین ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کیلئے قیام کو واجب قرار دیا ہے جو انہمہ ثلاثة اور امام زفر کا بھی مسلک ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”یفترض علیه أن يقوم للقراءة، فإذا جاء أوان الركوع والسجود أو ماً قاعداً.“ (النهر الفائق ج ۱ ص ۳۳۷) اگرچہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو تمام دوسرے فقهاء حنفیہ کے مخالف قرار دیکرائے اس نئے سہو پر محمول کیا ہے، (رد المحتار ج ۲ ص ۳۵۵ هـ فقرہ ۲۳۰) لیکن صاحب نہر کا یہ قول علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی اعتراض کے نقل فرمایا ہے۔ (طحاوی علی المراتی ج ۲ ص ۲۱) اور خود علامہ شامیؒ نے قہستانی، زاہدی اور ولوابیہ سے نقل کیا ہے کہ ایسا شخص رکوع کیلئے کھڑے ہو کر اشارہ کرے اور سجدے کیلئے بٹھکر، اور محیط برہانی میں شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا ہے (المحيط البرہانی ج ۳ ص ۲۷) جسکا حاصل بھی یہ ہے کہ اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا۔ نیز علامہ سرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی (غالباً بشر بن المعلی) مراد ہیں جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں) یہی قول نقل فرمایا ہے کہ:

”إنما سقط عنه بالمرض ما كان عاجزاً عن إتيانه، فأما فيما هو قادر عليه لا يسقط عنه“
(المبسوط للسرّ الخصيّ ج ۱ ص ۲۱۳)

چنانچہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب نہر کے قول کے بارے میں فرمایا ہے: ”والأحوط عندى ما ذكره فى النهر من وجوب القيام عليه للقراءة... وهذا، وإن تفرد صاحب النهر بذلك، ولم يوافقه عليه أحد من ناقل المذهب، ولكنّه قوى من حيث الدليل، فإنّ ظاهر حديث عمران مؤيد له كما لا يخفى۔ والله تعالى أعلم۔“ (إعلاه السنن ج ۷ ص ۲۰۳)

لیکن ایسے شخص سے قیام کے ساقط ہونے کی ایک اور وجہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، جو یہ ہے:

”إِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مِنْ عَجْزٍ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسَّجْدَةِ كَانَ عَنِ الْقِيَامِ أَعْجَزًا، لَا إِنَّ الْإِنْتِقَالَ مِنَ الْقَعْدَةِ إِلَى الْقِيَامِ أَشَقُّ مِنَ الْإِنْتِقَالِ مِنَ الْقِيَامِ إِلَى الرُّكُوعِ، وَالْغَالِبُ مُلْحِقٌ بِالْمُتَقِينَ فِي الْأَحْكَامِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْأَمْرَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ مَتَى صَلَّى قَائِمًا جَازَ، لَا إِنَّهُ تَكَلَّفٌ فَعَلًا لِيُسَعِّدَ عَلَيْهِ... فَأَمَّا الْحَدِيثُ، فَنَحْنُ نَقُولُ بِمَوْجَبِهِ أَنَّ الْعَجْزَ شَرْطٌ، لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ هُنَا نَظَرًا إِلَى الْغَالِبِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْغَالِبَ هُوَ الْعَجْزُ فِي هَذِهِ“

صاحب بداع نے اس مسئلے کی یہ دلیل سب سے پہلے بیان فرمائی ہے، اور سجدے کے تابع ہونے والی بات اسکے بعد ایک مزید وجہ کے طور پر بیان کی ہے، اور حضرت علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تو جیہے کو راجح قرار دیا ہے۔ اور اسکے راجح ہونے کی ایک قوی وجہ یہ ہے کہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کر کے اسی وجہ پر اقتضار کیا ہے، اور یہ وجہ بیان نہیں فرمائی کہ قیام و سیلہ سجدہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:



لأنَّ من سقط عنه الركوع عاجز عن القيام، وما سوى ذلك نادر۔” (التجزید للمسند

ج ۲ ص ۶۲۹)

اس تفصیل سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں:

(۱) یہ کہ جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہو اور سجدہ نہ کر سکتا ہو اُسے قرائت کھڑے ہو کر ہی کرنی چاہئے، اور اگر رکوع پر بھی قادر ہے تو رکوع بھی باقاعدہ کرنا چاہئے، البتہ سجدے کے وقت زمین پر بیٹھ جائے، اور اشارے سے سجدہ کرے۔ اسکے بعد اگر دوسری رکعت کیلئے اٹھنے پر قادر ہو تو دوسری رکعت کیلئے بھی اٹھ جائے، اور اگر اس میں سخت مشقت ہو تو باقی نماز پیٹھکر اشارے سے ادا کر لے۔ یہ صورت اس لئے راجح ہے کہ اس صورت میں تمام ائمہ اور فقهاء کے نزدیک اسکی نماز باتفاق ہو جائیگی۔ اسکے عکس اگر وہ کھڑے ہونے کے باوجود پیٹھکر نماز ادا کرے تو امام شافعی^{رحمۃ اللہ علیہ} امام مالک^{رحمۃ اللہ علیہ} امام احمد بن حنبل^{رحمۃ اللہ علیہ} کے نزدیک اسکی نماز نہیں ہوگی۔ (فقہاء حنفیہ کے حوالے تو پیچھے گذر چکے ہیں۔ ائمہ ثلاۃ کے مسلک کیلئے دیکھئے کتاب الام ج ۲ ص ۵۳، امغنا لابن قدامة ج ۱ ص ۸۱ اور المدوۃ الکبری ج اص ۱۷۱) اس لئے حتی الامکان کوشش کرنی چاہئے کہ نماز باتفاق درست ہو جائے۔

(۲) اگر مسئلے کی وجہ وہ ہو جو امام قدوری^{رحمۃ اللہ علیہ} اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور جسے حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے راجح وجہ قرار دیا ہے کہ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو وہ قیام پر بر جمہ اولیٰ قادر نہیں ہوتا، تو پھر یہ وجہ زمین پر پیٹھکر نماز پڑھنے کی صورت میں تو بیشک صادق آتی ہے، کیونکہ جیسا کہ صاحب بداع نے فرمایا، جس شخص کیلئے رکوع اور سجود ممکن نہیں ہے، اسکے لئے پیٹھکر کھڑا ہونا اور زیادہ مشکل ہوگا۔ لیکن اول تو بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن میں قیام پر کسی خاص مشقت کے بغیر قدرت ہو۔ ایسی صورت میں بھی قیام کو ترک نہ کرنا چاہئے، چاہے صرف پہلی رکعت قیام کے ساتھ اور بعد کی رکعتیں بیٹھ کر پڑھنی پڑیں۔

دوسرے کرسی پر نماز پڑھنے کی صورت میں یہ وجہ عموماً صادق نہیں آتی، کیونکہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ قیام باقاعدہ کرنے کے بعد معدود شخص کرسی پر پیٹھکر رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے، پھر جب دوسری رکعت کا وقت آئے تو کرسی سے کھڑا ہو جائے، کیونکہ کرسی سے کھڑا ہونا قادر علی القیام کیلئے زمین سے کھڑا ہونے کے مقابلے میں یقیناً

آسان ہے۔ لہذا جب تک ایسا کرنا اُسکی استطاعت میں ہو، قیام کو ترک نہیں کرنا چاہئے۔ البتہ اگر کسی نے حفیہ کے مشہور قول پر عمل کرتے ہوئے قیام ترک کر دیا، چاہے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی ہوئیا کرسی پر بیٹھ کر، اُسکی نماز کو فاسد نہیں کہیں گے، اس لئے کہ حفیہ کی ظاہر الروایت اُسکے مطابق ہے، اور اُس نے اُس قول پر عمل کیا ہے جو اُس کیلئے دلیل شرعی ہے۔

کرسی پر نماز پڑھنے کا حکم

اشارہ سے نماز پڑھنے کے لئے کرسی پر بیٹھنا اگرچہ بعض حالات میں جائز ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ اس لئے بلا ضرورت اور بلا عذر معتبر کریں استعمال نہیں کرنی چاہئے، بلکہ آجھل کھڑے ہو کر یا زمین پر پیٹھ کر نماز پڑھنے پر قدرت ہونے کے باوجود کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا جو رواج چل پڑا ہے، اس میں درج ذیل وجوہات کی بناء پر قباحت ہے:

(۱) معدور افراد کے لئے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا افضل اور مسنون طریقہ ہے۔ اسی پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور بعد کے لوگوں کا عمل چلا آرہا ہے، کرسی پر نماز ادا کرنے کا رواج ہمارے زمانے، ہی میں شروع ہوا ہے، خیر القرون میں اس کی نظر نہیں ملتی، حالانکہ اُس زمانے میں معدور افراد بھی ہوتے تھے، اور کرسیاں بھی ہوتی تھیں۔

(۲) جو لوگ شرعی لحاظ سے معدور نہیں ہیں، یعنی قیام، رکوع اور سجدہ پر قادر ہیں، ان کیلئے زمین پر پیٹھ کر فرض واجب نماز ادا کرنا جائز ہی نہیں، جبکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسے غیر معدور افراد بھی کرسیاں دیکھ کر ان پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔

(۳) کرسیوں کے بلا عذر استعمال سے صفوں کو درست اور سیدھا رکھنے میں بہت خلل واقع ہوتا ہے، حالانکہ صفوں کو ملانے اور سیدھا کرنے کی بہت تاکید آتی ہے، ایک حدیث شریف میں ہے:



را صو اص فو فكم وقار بوا بینها و حاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیده انی

لاری الشیطان يدخل من خلل الصف کانها الخذف (سنن النسائی ج ۳ ص ۱۱ حدیث نمبر ۸۰۲)

(ترجمہ) اپنی صفحیں ملی ہوئی رکھو اور ان کو آپس میں قریب رکھو اور اپنی گرد نیں برابر رکھو،

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں شیطان کو بکری کے کالے

بچ کی طرح صفوں کی کشادگی میں گھستے دیکھتا ہوں۔ (از مظاہر حق ج ۱ ص ۲۷۳)

(۴) مساجد میں بلا ضرورت کرسیوں کی لذت سے عیسائیوں کے گرجا اور یہودیوں کی عبادت گاہ سے

مشابہت معلوم ہوتی ہے، جہاں کرسیوں اور بچوں پر بیٹھ کر عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں اور دینی امور میں یہود و نصاریٰ وغیرہ کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔

۵) نماز توضیح اور انصاری کی عبادت ہے، اور کسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے مقابلے میں زمین پر بیٹھ

کر نماز ادا کرنے میں یہ انصاری بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔

۶) بعض جوان اور تندرست نمازی حضرات نماز کے بعد ان کرسیوں پر آرام کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ

ایسے نمازی کرسیوں کو ایک دائرے کی شکل دے کر اس پر بیٹھ کر باتوں میں مشغول رہتے ہیں، جو مسجد کے قدس اور اس کی شان اور ادب کے خلاف ہے۔

۷) مساجد میں بلاعذر کرسیوں کا استعمال بعض صورتوں میں قرآن کریم اور بزرگ نمازوں کے ادب

واحترام کے خلاف ہو جاتا ہے۔

اس لئے اشارہ سے نماز پڑھنے کیلئے بھی حتی الامکان کرسیوں کے استعمال سے بچنا چاہئے اور ان کے استعمال

کی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے، اور ان کا استعمال صرف ان حضرات کی حد تک محدود کرنا چاہئے جو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہوں۔ البتہ رکوع سجدے سے معدود افراد کیلئے کسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا اس لئے جائز ہے کہ جب کوئی شخص

رکوع سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کیلئے اگرچہ افضل یہی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، لیکن فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص اگر کھڑے کھڑے رکوع اور سجدے کا اشارہ کر لے تو جائز ہو گا۔ چنانچہ درمختار میں ہے کہ: ”لو أوماً قائمًاً حاز، إلا أن الإيماء قاعداً أفضل؛ لأنه أقرب إلى السجود“ (فتح القدير ج ۱ ص ۴۶۰)

لہذا جب اشارے سے نماز پڑھنے والے کے لئے زمین ہی پر بیٹھ کر پڑھنا متعین اور ضروری نہ ہوا، بلکہ

کھڑے ہو کر اشارے سے بھی پڑھنا جائز ہے، تو کسی پر بیٹھ کر بھی اشارے سے پڑھنا جائز ہے، البتہ کرسی کے مقابلے میں زمین پر بیٹھنا افضل ہے کیونکہ زمین پر بیٹھنے والا اقرب الی الارض یعنی زمین کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

کیا پیٹھکر نماز کی صورت میں سامنے کسی چیز پر سجدہ کرنا ضروری ہے؟

جامعہ دارالعلوم کراچی کے بعض فتاویٰ میں اس سوال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ”سامنے تختہ یا میز وغیرہ پر بجده کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی باقاعدہ سجدہ ہی ہے“۔ ان فتاویٰ کی بنیاد درحقیقت علامہ شامی رحمہ اللہ کی یہ عبارت ہے:

”بل یظهر لی انه لوکان قادر اعلیٰ وضع شیء علی الارض مما يصح السجود عليه انه يلزمہ ذلک لأنہ

قادر علی الرکوع والسجود حقيقة. ولا يصح الإيماء به مامع القدرة. عليهمما، بل شرطہ

تعذرهم ما کما هو موضوع المسئلة“.....

لیکن بعد میں بعض اہل علم کے توجہ دلانے اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بحث پر غور کرنے سے چند امور

سامنے آئے:

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ مذکورہ عبارت درحقیقت زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے متعلق ہے، کرسی کی نشست سے متعلق نہیں ہے۔ کرسی کے سامنے تنخوا وغیرہ پر سجدہ کے وجوب کیلئے سابقہ فتاویٰ میں مذکورہ عبارت پر قیاس کیا گیا ہے، جبکہ کرسی کی نشست کے لئے مذکورہ عبارت پر قیاس کرنا اس لئے درست معلوم نہیں ہوتا کہ زمین پر بیٹھنے کی صورت میں گھٹنے زمین پر لٹکے ہوتے ہیں، اسی لئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اُسے ”سجدہ حقیقیہ“ قرار دیکر واجب کہا ہے۔ لیکن کرسی پر بیٹھنے کی صورت میں سامنے کسی چیز پر سجدہ کرنے کو وجہ سے ”سجدہ حقیقیہ“ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھنے ہوئے گھٹنے زمین پر نہیں ہو سکتے، اور گھٹنوں کا زمین پر لکھنا راجح قول کے مطابق سجدے کیلئے واجب ہے، جیسا کہ حدیث میں جن سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا ذکر ہے، ان میں گھٹنے بھی داخل ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”واختار في الفتح الوجوب، لأنَّه مقتضى الحديث مع المواظبة۔ قال في البحر: وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول۔“ (رد المحتار ج ۳ ص ۴۵۷۶ فقرہ ۴۰) وقال في موضع آخر: ”وقدمنا الخلاف في أنَّه سنة أو فرض أو واجب، وأنَّ الأخير أعدل الأقوال۔“ (ج ۳ ص ۳۲۱ فقرہ ۴۲۰۹)

اسکے علاوہ کرسی کے سامنے جو تنخوا یا میز وغیرہ رکھی ہو وہ اگرچہ مصلی کے بیٹھنے کی جگہ سے زیادہ بلند نہ ہو، لیکن زمین سے کافی بلند ہوتی ہے، اور کسی نص میں اس طرح شے مرتفع پر سجدہ کرنے کا حکم مذکور نہیں، بلکہ دابہ پر بیٹھنے کی صورت میں جب نماز یچھے اتر کر معذر ہو جائے تو فرض نماز میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اشارے سے نماز پڑھی جائے وہاں کوئی چیز سامنے رکھکر اُس پر سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ چنانچہ بدائع میں ہے:

”وكذلك الصحيح إذا كان على الراحلة وهو خارج المصر وبه عذر مانع من النزول في عن الدابة من خوف العدو أو السبع أو كان في طين أو ردغة يصلى الفرض على الدابة قاعداً بالإيمان ومن غير ركوع وسجود، لأنَّ عند اعتراض هذه الأعذار عجز عن تحصيل هذه الأركان من القيام والركوع“

والسجود، فصار كما لو عجز بسبب المرض، ويومئ إيماء۔“ (بدائع الصنائع ج ۱ ص ۱۰۸)

لہذا کرسی پر بیٹھنے کی صورت پر سجدہ کرنے کو ”سجدہ حقیقیہ“ کہنا درست نہیں۔ اور جب وہ ”سجدہ حقیقیہ“ نہ ہو تو جس بناء پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پر بیٹھ کر سامنے کی چیز پر سجدہ کرنے کو واجب کہا تھا، وہ بناء باتی نہ رہی۔ لہذا کرسی پر بیٹھنے کی صورت پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات صادق نہیں آتی، اور اُسکی بنیاد پر سامنے کی کسی چیز پر سجدہ کرنے کو واجب نہیں کہا جا سکتا۔

البتہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں سامنے کسی چیز پر سجدہ کرنے کے

بارے میں جوبات فرمائی ہے، اسکا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے کسی اتنی اوپھی چیز پر سر ٹکا سکتا ہو جس پر سجدہ کرنا صحت کی حالت میں بھی صحیح ہو جاتا ہے، (جسکی مقدار میں فقہاء نے مختلف اندازے ذکر فرمائے ہیں، اور حفیہ کے یہاں مشہور قول نصف ذراع کا ہے) تو ایسے شخص کیلئے اسی پر سجدہ کرنا واجب ہوگا، اور یہ سجدہ حقیقی ہی ہوگا، اشارہ نہیں۔ چنانچہ یہ بات علامہ زیلیق رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ صراحت کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”لو كان الشبيع الموضع بحال لو سجد عليه الصحيح تحوز جاز للمرتضى على أنه سجود، وإن لم يجز للصحيح أن يسجد عليه فهو إيماء، فيجوز للمرتضى إن لم يقدر على السجود -“ (تبیین الحقائق ج ۱ ص ۲۰۰ و ۲۰۱)

اس میں خط کشیدہ عبارت سے واضح ہے کہ وہ بھی اس صورت میں سامنے کی چیز پر سجدے کو واجب قرار دے رہے ہیں، اور اس صورت میں اس کا واجب ہونا بالکل ظاہر ہے، کیونکہ جب اس طرح تدرست شخص کا سجدہ صحیح ہو جاتا ہے، اور مریض اس پر قادر ہے تو اسکے لئے یہی طریقہ معین ہوگا۔ چنانچہ حضرت امّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اسی پر تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انکا عمل اس طرح روایت فرمایا ہے:



”عن الحسن عن أمّه قال: رأيت أمّ سلمة زوج النبّي صلّى الله عليه وسلم تسجد على كثرة العذاب من أدم من رمد بها.“ (كتاب الأُمّ ج ۲ ص ۴۵ و معرفة السنن والآثار للبيهقي ج ۳ ص ۲۲۴)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کر کے اس سے استدلال بھی فرمایا ہے۔

البنت امام تیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اس طرح روایت فرمائی ہے کہ:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا، فَرَآهُ يُصْلِى عَلَى وَسَادَةِ فَأَخْذَهَا فَرَمَى بَهَا، فَأَخْذَ عَوْدًا لِيُصْلِى عَلَيْهِ، فَأَخْذَهُ فَرَمَى بَهُ وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ أَسْطَعْتُ، وَإِلَّا فَأُؤْمِنُ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سَجْدَوْكَ أَخْفَضْ مِنْ رَكْوَعِكَ.“ (معرفة السنن والآثار ج ۳ ص ۲۲۵ و روایہ البزار و رجالہ رجال الصحیح کذافی مجمع الزوائد و فی الدرایۃ بعد عزوہ الى البزار و البیهقی و رجالہ ثقات کما فی إعلان السنن ج ۷ ص ۲۰۳)

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے تکیہ یا کوئی لکڑی رکھ کر سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسکے علاوہ امام تیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی روایت فرمایا ہے کہ وہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کو گئے تدویکھا کہ وہ کسی چیز پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا:

”إِنْ أَسْطَعْتُ أَنْ تَضُعَ وَجْهَكَ عَلَى الْأَرْضِ فَافْعُلْ، وَإِلَّا فَأُؤْمِنُ إِيمَاءً.“ (معرفة السنن والآثار ج ۳)

لیکن امام تہذیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے درمیان تطیق دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو صاحب تکیے پر سجدہ کر رہے تھے یا تو کسی نے وہ اٹھا کر انکے سامنے کیا ہوگا، یا وہ زمین سے بہت بلند ہوگا۔ چنانچہ امام تہذیب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي وَسَادَةِ مَرْفُوعَةٍ إِلَى جَبَهَتِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي وَسَادَةِ مَرْفُوعَةٍ مُرْتَفَعَةٍ عَنِ الْأَرْضِ جَدّاً۔“ (معرفۃ السنن والآثار ج ۳ ص ۲۲۵)

امام تہذیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بڑی وزنی ہے، اس لئے کہ جس تکیے یا لکڑی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، اگر وہ اتنا نیچے اور اتنا پلا ہوتا کہ ایک تند رست انسان بھی اُس پر سجدہ کرتا تو سجدہ صحیح ہو جاتا تو اسے پھینکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی چیز زمین سے تھوڑی بلند ہو اور زمین کی سختی پیشانی کو محسوس ہونے سے مانع نہ ہو تو اس پر صحت کی حالت میں بھی سجدہ درست ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اُسی صورت سے متعلق ہو گی جب کوئی شخص اتنی بلند چیز پر سجدہ کر رہا ہو جس پر تند رستی میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) جو شخص زمین پر سرٹکا کر سجدہ کرنے سے معدود ہو، لیکن قیام پر قادر ہو تو اسے چاہئے کہ وہ قرائت باقاعدہ کھڑے ہو کر کرے اور اگر کوئی پر قادر ہے تو رکوع بھی باقاعدہ کرے اور اگر کوئی پر بھی قدرت نہ ہو تو کوئی کا اشارہ کھڑے ہو کر بھی کر سکتا ہے، اور بیٹھ کر بھی۔ اور سجدہ بیٹھ کر اشارے سے کرے اور اگر کسی خاص مشقت کے بغیر دوسری رکعت کیلئے کھڑا ہو سکتا ہو تو دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھے، اور اگر بیٹھ کر اٹھنے میں مشقت زیادہ ہو تو باقی نماز بیٹھ کر اشارے ہی سے پڑھ لی تو چونکہ غیر مجتهد کیلئے مجتهد کا قول بھی دلیل شرعی ہے، اس لئے اُسکی نماز کو بھی فاسد نہیں کہیں گے۔

(۲) رکوع اور سجدے سے معدود ری کی جس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی جائے۔ اور اگر قیام پر قدرت ہو تو قرائت کر سی پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر ہی کرنی چاہئے۔ البتہ قیام، رکوع اور سجدے پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں اگر کرسی پر نماز ادا کی جائے تو اس میں رکوع اور سجدے کیلئے اشارہ کرنا بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ سامنے کرسی کی نشست کے برابر یا اس سے معمولی اونچی چیز پر سرٹکا کر سجدہ کرے، لیکن یہ بھی اشارے ہی کے حکم میں ہوگا، اسے باقاعدہ حقیقی سجدہ نہیں کہا جائیگا، اور ایسا کرنا واجب بھی نہیں۔ البتہ

بیت سجدہ سے نسبہ اقرب ہونے کی بنا پر اس کو بہتر سمجھا جائے تو یہ بھی بعید نہیں۔

اس تحریر سے پہلے دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی سے جاری ہونے والے فتاویٰ میں جو کوئی جزء اس تحریر کے خلاف ہے، اُس سے رجوع کیا جاتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

بندہ

محمد علی عثمانی علیہ عنہ
درالافتاء حاصل علم کراچی



لکھوچی ہر جا بمع مرکوز ہے بانگلہ متفق ہے

بندہ مکرور فخر اللہ

دارالافتاء حاصل علم کراچی



بندہ اس متفق ہے متفق ہے

۴-۳-۱۹۷۴

بندہ بھی مذکورہ بالا علی موقف متفق ہے

میر عبد المظہن مخاطر

۲۰ مئی ۱۹۷۴



۱ صفر عمل ربانی

۲ ربیع الثانی ۱۴۳۵

بندہ مذکورہ بالا جامع اور مدلل تحریر

تفق ہے۔ بنگالہ



بندہ متفق ہے

۱۴۳۵/۲

حسن

محمد علی علیہ عنہ
۱۴۳۵/۲

۲۰ مئی ۱۹۷۴



بیت سجدہ سے نسبت اقرب ہونے کی بنارساکو بہتر سمجھا جائے تو یہ بھی بعید نہیں۔

اس تحریر سے پہلے دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی سے جاری ہونے والے فتاویٰ میں جو کوئی جزء اس تحریر کے خلاف ہے اُس سے رجوع کیا جاتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

جزی اللہ تعالیٰ عنا شیخنا الفقیہ احسن ما یحاجزی به العبار
ومدۃ اللہ تعالیٰ نظمہ الکیم فقد جملة اللہ تعالیٰ بجهرا لربیہ
التعیم ومحبہ رحمی مسائل الفقہ المعاصرة وموصلہ إلى
الحق والصواب - حفظہ اللہ تعالیٰ ونفعنا الجلومه وبرکاتہ
العبد محمد فرغی اللہ

خرچہ ربیع الثانی ۱۴۳۴

۲۰۱۹ / ۰۸ / ۱۳

۵۷

بندہ نے حضرت والد رحمتہ بزرگانہ کی مذکورہ یادا جائی و مانع تحریر
کاملہ اعلیٰ کیا جو مساعداً اش کافی و تافی ہے اور بینہ اس سے متفق ہے
اسی تعالیٰ حضرت والد رحمتہ بزرگانہ خیر طلاق و معاشرے
آمنہم آمن - بنی اللہ (ع) ، محمد عبد المنان عجیب من
امداد ملک ۱۴۳۴

جزی اللہ تعالیٰ اکٹاب شیخنا النبیل

الفقید ابن الفقیہ خیر البراء و امیر علی[ؑ]
افادنا هذہ الفوائد و نسال اللہ
اللہ یکن ندینہ و يجعل ما یحلف من آثار
میزائل الہمالم الصالحیں - آمن علی

امیر شاہ محمد تقی بن علی
۱۴۳۴ / ۰۸ / ۱۱

محمد
۱۴۳۴

۱۱

عطا

۰۱۲۶

محمد حسین علی الحنفی
۱۴۳۴

۱۴۳۴

۱۴۳۴

سرحد النظری صدر المقالۃ
الواقعۃ (الفقہہ) خیزی اللہ تعالیٰ
عناد عن سائر الادمۃ خیر البراء

احمد علی ربیعی

۱۴۳۴